

DATE: \_\_\_\_\_

DAY: \_\_\_\_\_

To look a gift  
horse in the mouth

اکبر نے اپنے آن کو بہت اچھا قلم تھے میں دیا ہے - تب  
کہ اس میں لفڑی نہیں زکالنا چاہئے۔

Akbar presented himself with good pen. You should not look a gift horse in the mouth.

اکبر اپنے خیالی ملاؤ رکتا رہتا ہے۔ حقیقت میں اس  
کا ایک مغلوب ناکام ہیو جاتا ہے۔

Akbar often builds his air castle. In reality, his every plan is house of cards.

پاکستان اور بھارت کو اپنے مسائل جوستانہ طریقے سے  
حل کرنے چاہئے۔

Pakistan and India should iron out their difficulties.

بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بھی رکا دشمن نہیں  
بلکہ نہیں۔

No one is a sworn enemy in international relations.

بین الاقوامی سیاست میں یہ عام ہے کہ اکثر ممالک  
اپنے مفادات کیلئے خوبی مغلوبہ بناتے ہیں۔

It is common practise that some states propose a hole and corner policies for their interests in international politics.

وہ اتنا بد لعیب ہے کہ وہ ہر دفعہ امتحان میں ناکام ہو  
جانا ہے۔

6- He is so star crossed that he gets fail in exam everytime.

دلنشت گردی کی جنگ نے پاکستان کی صنعت پر گہرا

The war on terrorism ~~had a~~ deep impact  
shook up the economy  
of Pakistan.

اس کی خوبصورتی نے سب کو سمر زدہ کر دیا ہے۔

Her beauty casted a spell on everyone.

ہماری حکومت عام آدمی کے مسائل پر توجہ نہ دیتے ہوئے  
بڑی بڑی سڑکیں بنائیں کام کر رہی ہے۔

Our government is putting the cart before  
the horse by constructing roads in length  
instead of focusing on common man's  
problems.

جب حسوس بے قابو ہو جائے تو انسان کی شخصیت کو  
تباہ کر دیا ہے۔

When jealousy got run riot then it destroys  
human's character.